



## سوال

(189) بچوں کو سمجھانے کے لیے جھوٹ بولنا

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

کیا ہم بچوں کو جو ضدی ہوتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں حدیث کے حوالے سے جواب دیں۔؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیح السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

الحمد للہ، والصلوٰۃ والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

مسند احمد کی ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ

«من قال لسی قال حاک ثم لم یصل فی کذبہ» ۹۶۲۵

جس نے کسی بچے سے کہا کہ ادھر آویہ لے لو اور پھر اسے وہ نہ دیا جس کے لیے اس نے اسے بلایا تھا تو یہ بھی ایک جھوٹ ہے۔

اس روایت کو شیخ شعیب الرنوط نے شیخین کی شرط پر صحیح قرار دیا ہے۔

اور جھوٹ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔

حدا ما عنہم والنداء علم بالصواب



مجلس البحث والدراسات  
الاسلامية  
مهدى فتوى

## فتاوى علمائے

### حدیث

### جلد 2 کتاب الصلوة